



لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ نماز میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ آپ نے یہ بات بڑی سخت لہجے میں کی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا: لوگ اس سے باز آجائیں ورنہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ نماز میں اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ آپ نے یہ بات بڑی سخت لہجے میں کی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا: لوگ اس سے باز آجائیں ورنہ ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔
[صحیح] [متفق علیہ]

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی ضروری ہے کہ حالت نماز میں وہ پر سکون رہے اور خشوع و خضوع اختیار کرے خشوع قلب کی علامت اعضا کا پرسکون ہونا ہے؛ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے اپنی امت کو نماز میں فضولیات اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے ڈرایا ہے کیوں کہ یہ نماز کے آداب اور رتبہ کی منافی چیزیں ہیں؛ اس لیے کہ نماز قبلہ رو، اپنے کہ سامنے کھڑے ہو کر اس سے محو گفتگو ہوتا ہے چنانچہ اس موقع پر آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا اللہ کے ساتھ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے اسی لیے رسول اللہ نے انذار اور وعید میں مبالغہ سے کام لیتے ہوئے ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے، جو دوران نماز اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ اس سے باز آجائیں، ورنہ ان کی بینائی چھین لی جائے گی اور یہ اتنی تیزی سے ہو گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور نعمت بصارت سے محروم ہو جائیں گے ان کے ساتھ یہ سب کچھ نماز کی توفیق کی سزا کے طور پر ہو گا۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10883>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

